


# FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- \_\_\_\_\_ **240/2023**

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	27/1/2023	<p>The appeal of Mr. Kheyal Muhammad resubmitted today by Roecda Khan Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____. Parcha Peshi is given to appellant/counsel.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>


This is an appeal filed by Kheyal Muhammad today on 28/12/2022 against the order dated 10.10.2022 against which he made/preferred departmental appeal/representation on 26.10.2022 the period of ninety days is not yet lapsed as per section 4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act 1974, which is premature as laid down in an authority report as 2005-SCMR-890.

As such the instant appeal is returned in original to the appellant/Counsel. The appellant would be at liberty to resubmit fresh appeal after maturity of cause of action and also removing the following deficiencies.

- 1- Copies of charge sheet, statement of allegations, show cause notice, enquiry report and replies thereto are not attached with the appeal.


No. 58/ST,

DL 5/1/2023.

  
REGISTRAR  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Roeeda Khan Adv. Pesh.

objection has  
been removed,



27-1-2023

No chargesheet  
& statement of analysis  
issued No D/L inquiry  
has been conducted  
what has been developed  
from Amintur B page 12

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Appeal No. 240 of 2022

Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar

..... Appellant

**VERSUS**

- 1) District Police officer Khyber.
- 2) Capital City Police officer Police Line KPK Peshawar.
- 3) Inspector General of police KPK Peshawar.

..... Respondents

**INDEX**

S.No.	Description of documents	Annexure	Pages
1.	Memo of Appeal		1-4
2.	Addresses of the parties		5
3.	Affidavit		6
5.	Copy of impugned order 10.10.2022	A	7
6.	Copy of Departmental Appeal	B	8
7.	Copy of revision petition and letter dated 28.11.2022	C&D	9-11
8.	Copy of application	E	12
9.	Wakalat Nama		

Dated 28/12/2022

  
Appellant

Through

  
Kabir-Ullah Khattak

  
Roeda Khan

Advocates, High Court,  
Peshawar.

(1)

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Appeal No. 240 of 2023

Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar

..... Appellant

**VERSUS**

- 1) District Police officer Khyber.
- 2) Capital City Police officer Police Line KPK Peshawar.
- 3) Inspector General of police KPK Peshawar.

..... Respondents

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KPK SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, AGAINST THE IMPUGNED ORDER DATED 10.10.2022 WHEREBY MAJOR PENALTY OF DISMISSAL FROM SERVICE HAS BEEN AWARDED TO THE APPELLANT AGAINST WHICH THE APPELLANT FILED THE DEPARTMENTAL APPEAL 26.10.2022 WHICH HAS NOT BEEN DECIDED WITHIN THE STATUTORY PERIOD OF NINETY DAYS:**

**Prayer:**

On acceptance of the instant service appeal the impugned order dated 10.10.2022 may kindly be set aside and the appellant may kindly be reinstated on his service along with all back benefits.

(2)

**Respectfully Sheweth:**

**FACTS**

The appellant respectfully submits as under:

- 1) That the appellant was appointed as FC Constable with respondent Department on 2014.
- 2) That after appointment the appellant performed his duty with full devotion and hard work and no complaint whatsoever has been made against the appellant.
- 3) That while performing his official duty with respondent Department the appellant has been restrained from performing his official duty with respondent Department by not obeying the illegal order of his high-ups at the month of July, 2022.
- 4) That on 10.10.2022 the impugned order has been issued against the appellant whereby the appellant has been dismissed from service. (Copy of impugned order 10.10.2022 is attached as Annexure-A).
- 5) That the appellant submitted a Departmental appeal on 26.10.2022 against the impugned order dated 10.10.2022. (Copy of Departmental Appeal is attached as Annexure-B).

- 6) That the appellant submitted a revision petition on 16.11.2022 in response of which a letter has been issued to respondent No. 2 by the respondent No. 3 on 28.11.2022 regarding the rejection order of Departmental Appeal. (Copy of revision petition and letter dated 28.11.2022 are attach as Annexure-C&D).
- 7) That the appellant submitted an application to respondent Department on 30.11.2022 regarding the response of Departmental Appeals. (Copy of application is attached as Annexure-E).
- 8) That feeling aggrieved the appellant prepares the instant Service Appeal before this Hon' able Tribunal inter alia on the following grounds.

#### GROUNDS

- A). That the impugned order dated 10/10/2022 is come under the definition of void order because it has been passed without fulfilling the codal formalities.
- B) That no charge sheet and no statement of allegation has been issued or served to the appellant which is a clear cut violation of Rule-06 (i) (a) of Police Rules 1975.
- C) That no show cause notice and no final show cause noticed has been issued against the appellant.

(4)

- D) That no opportunity of personal hearing and defense has been provided to the appellant.
- E) That no Departmental inquiry has been conducted against the appellant which is mandatory before imposing of major penalty.
- F) That there is no illegality on part of the appellant and so concerned the absence of the appellant it was not intentionally but due to the reason mention in the above paras.
- G) That any other will be raised at the time of arguments with the prior permission of this Hon' able court.

It is therefore most humbly prayed that on acceptance of the instant service appeal the impugned order dated 10.10.2022 may kindly be set aside and the appellant may kindly be reinstate on his service along with all back benefits.

Any other remedy which this august tribunal deems fit that may also onward granted in favor of appellant.

Dated 28/12/2022.



Appellant

Through



Kabir Ullah Khattak



Roeeeda Khan

Advocates, High Court,  
Peshawar.

(5)

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2022

Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar

..... Appellant

**VERSUS**

- 1) District Police officer Khyber.
- 2) Capital City Police officer Police Line KPK Peshawar.
- 3) Inspector General of police KPK Peshawar.

..... Respondents.

**ADDRESSES OF THE PARTIES**

**Appellant**

Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar


**Respondents**


- 1) District Police officer Khyber.
- 2) Capital City Police officer Police Line KPK Peshawar.
- 3) Inspector General of police KPK Peshawar.

Dated 28/12/2022

  
Appellant

Through

  
Kabir Ullah Khattak.

  
Rooeda Khan

Advocates, High Court,  
Peshawar.



(6)

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2022

Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar

..... Appellant

**VERSUS**

- 1) District Police officer Khyber.
- 2) Capital City Police officer Police Line KPK Peshawar.
- 3) Inspector General of police KPK Peshawar.

..... Respondents

**AFFIDAVIT**

I, Kheyal Muhammad S/o Mastan Gul R/o Neher Garhi Sarband Peshawar do hereby solemnly and oath that the contents of the instant appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon' able Court.

  
Deponent

DISTRICT POLICE OFFICER  
KHYBER

No. 6727 /PA-DPO Khyber

Dated 10/10/2022

DISMISSAL ORDER

*Khyal*  
FC ~~Khyal~~ Muhammad No. 3059 s/o Mastana Gul of District Police Khyber was suspended and closed to Police Lines Khyber vide Order No. 4061-66/PA-DPO Khyber dated 25/07/2022 due to his absence from lawful duty. He was directed to report to Police Lines Khyber, but he failed to do so, thus making his regular absence period 03 months and 23 days long because he did not report to his post since his date of transfer vide Order No. 3107-10/OHC-Khyber dated 14/06/2022. The official was issued with final show cause notice on 01/10/2022 to report to his duties but he failed.

Moreover, the delinquent official was directed multiple times to join his duty via DSP HQrs, RI Lines and concerned SHO vide D.D Entry No. 13, dated 09/08/2022 of Police Lines Khyber. Finally, he was contacted directly on his cell phone from Police Lines Khyber reported vide D.D Entry No. 17, dated 16/08/2022 and D.D Entry No. 27, dated 18/08/2022. However, he failed to respond to any notice or to join his duty.

Therefore, the undersigned, being the competent authority, is satisfied about his non-interest in performance of duties and compliance. Thus, in order to maintain discipline in the force, the undersigned hereby awards the defaulter official with Major Punishment of Dismissal from Service as per Section 4-b(iv) of Police (E&D) Rules 1975 (With Amendments - 2014).

*Imran Khan*  
IMRAN KHAN (PSP)  
DISTRICT POLICE OFFICER,  
KHYBER

OB No. 1140 /dated 10/10/2022

No. 6728-32 /PA-DPO Khyber

Copies to:

1. DSP HQrs/RI Lines for information
2. OHC DPO Office Khyber for Transfer/Posting Record
3. Accountant Khyber for Stoppage of pay
4. Service Record Branch for compilation of Service Record
5. IC Control Room for proper communication

شرکت عدنان سی سی سی او صاحب پور پین لائن پشاور

عدنان عالی ا (B)

مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ماڑہ اکاؤنٹل عجیب ٹالس میں ڈیوٹی  
سیرٹیفکٹ تھا، جو کسی ایچارج نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ لوڈ پیئر  
گھاڑیوں سے بہتر وصول کرنے۔ جس سے میں نے انکار کر دیا۔  
جو کسی ایچارج نے مجھے دھمکی بھی دی۔

آپ عدنان سے گزارش کی جائے۔

عسیری ٹوکن سی خیال کرے میں آپ کے جو شکوہ اور  
آپ کے ڈیمانڈوں کے۔


26-10-2022 عذر فرمے

الغارین

آپ کا تالیف دار کانسٹیبل خیال محمد ولد عثمانہ گل۔

CNIC No: 17301-6835088-5

Signi Boyls



(۹۱) (۷۷)  
مختصر

## انسپیکٹر جنرل آف پولیس

خیبر پختونخوا پشاور

درخواست برآمد حکم فرمانے واسطے بحالی سروس (FS Khial Muhammad) آف

عنوان:

ڈسٹرکٹ پولیس خیبر بمعدہ ادائیگی تنخواجات و بقایاجات

جناب عالی! مسائل حسب ذیل عرض رساں ہے۔

یہ کہ من مسائل ایک ایماندار فرض شناس محنتی، جوان انسان ہوں۔ صاف ستھرے اور بے داغ سروس کردار کا حامل انسان ہوں۔ من مسائل نے غیر حاضری قصداً یا عمدتاً نہ کی ہے بلکہ بہت ہی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں جب میرے سینئر آفیسر سجاد صاحب (عزازی سب انسپکٹر) مجھے ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا یہ حکم نہ مانا تو پولیس لائن کے اندر ڈیوٹی واسطے آنے کی ہمت نہ کرنا اور ناتیجہ کا تم خود ذمہ دار ہو گے اسکا غیر قانونی حکم یہ تھا کہ میں باہر سڑک پر جا کر بڑی گاڑیوں سے بھرتے کے نام پر غیر قانونی طور پر روپیہ پیسہ وصول کر کے اسکو دے دوں تاکہ وہ اسکے ذاتی جیب میں چلا جائے سراسر اسکا یہ حکم پولیس کے صاف ستھرے یونیفارم کو بدنام کرنی کی اسکی چال تھی میں نے اسکا یہ حکم نہ مانا تو اس نے مجھ پر ڈیوٹی کرنے پر پابندہ لگا دی۔ سٹاف کے سامنے میرے بے عزتی کی اور مجھے پولیس لائن سے زبردستی باہر کر دیا۔

اس سلسلے میں، میں نے سی سی پی او صاحب کو پولیس لائن پشاور میں ایک درخواست مورخہ 26-10-

2022 کو دے دی ہے لیکن میرے کوئی شنوائی نہ ہوئی یہ میرے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور میں نے

پولیس سروس کے صاف ستھرے کردار کو بچانے واسطے قربانی دی۔

(15)

لہذا استدعا ہے کہ بنظوری درخواست ہذا میں مسائل کے ساتھ نرمی سے کام لیتے ہوئی متعلقہ سر  
سب انسپکٹر سجاد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور میرے ساتھ انصاف کر کے مجھے اپنی  
پولیس سرورس دوبارہ بحال کرنے کے واسطے اور میری تنخواہ کے بقایا جات مجھے دلوانے واسطے  
احکامات صادر فرمادیں۔

میں مسائل بہت شکر گزار اور دعا گو رہوں گا اور آپ کی ترقی اور زندگی میں کامیابی واسطے دعا کرتا رہوں گا۔

العبد

خیال محمد (کانشیل FC No. FC No. 3059)

16.11.2022

موبائل نمبر: 0335-9505073

بیان خطی 22-11-2022  
میں ساری  
ضروریات حل کر کے  
مہربان دوست رہیں  
الحمد للہ



(D) (11)

OFFICE OF THE  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
Central Police Office, Peshawar.

No. S/ 2923 /22, dated Peshawar the 28/11 /2022.


To : The Capital City Police Officer,  
Peshawar.

Subject: APPLICATION FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE.


Memo:

Ex-FC Kheyal Muhammad No. 3059 s/o Mastan Gul of district Khyber Police has preferred application to the Worthy IGP/Khyber Pakhtunkhwa for reinstatement in service.

In order to proceed further in the matter, a copy of his appeal rejection order may be sent to this office, please.

  
Office Superintendent,  
Secret Branch CPO

ci 28/11/2022



12 "E" کھنڈہ  
کیٹیل جس کی لیس اس پر جاری ہے

Ref:-

Letter # S/ 2923 / 22 dated Peshawar the 28/11/2022

درخواست نمبر 26-10-2022

جناب عدالت

مخبر کے مطابق مال جناب ادریس کے لئے طلبہ کیلئے جاری ہے۔ حال میں اس کے  
مذکورہ درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔

مال جناب ادریس کے لئے طلبہ کیلئے جاری ہے۔ اس کے لئے اس کا  
درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔

Letter نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔ اس کے لئے اس کا  
درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔

چونکہ اس کے لئے درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔ اس کے لئے اس کا  
درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت درخواست ہے۔

30/11/2022

الحمد لله  
حالیہ

Ex. FC # 3059


(Cell - 0335-9505073)



AFFIDAVIT  
میں نے سچے سچے اور حقیقت کے مطابق  
مذکورہ درخواست نمبر 26-11-2022 کے تحت  
درخواست ہے۔

Applicant

بعدالت اولیٰ



مورخہ

مقدمہ

دعویٰ

جرم

2022ء منجانب اللہ

ضمانت نامہ

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کارروائی متعلقہ

آن مقام

مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے ق تقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ ار عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا محتاج ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکور با اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داخستہ منظور و قبول ہوگا دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ ہوں گے سب سے وہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ مندر ہے۔

2022ء

ماہ دسمبر

28

الرقوم

واہ العبد

Acceptance  
13/11/22